

1 اکتوبر 2018

## سموک الارم نہیں، تو بچنے کی کوئی امید نہیں

برامپٹن، آن - صرف کام کرنے والے سموک الارم زندگیاں بچاتے ہیں۔

ہر گھر کی ہر منزل پر اور سونے کے ہر کمرے کے باہر ایک کام کرنے والا سموک الارم موجود ہونا لازمی ہے۔

6 اور 12 اکتوبر کے درمیان برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز (BFES) پورے برامپٹن میں جا کر اس پیغام کو عام کرے گا کہ صرف کام کرنے والے سموک الارم ہی زندگیاں بچا سکتے ہیں: سموک الارم نہیں، تو بچنے کی کوئی امید نہیں

BFES کے افسران فائر پریوینشن ویک کے شراکت داروں بشمول ڈومینوز، اولڈ نیوی، برامیلیہ سٹی سنٹر اور شاہر وارلڈ کے ساتھ مل کر برامپٹن کے رہائشیوں تک حفاظت کا یہ اہم پیغام پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیں گے۔

4 اکتوبر، بروز جمعرات کو سٹی ہال، فائر پریوینشن ویک کے سلسلے میں ایک افتتاحی اور پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کرے گا۔

اس سال کی اہم بات یہ ہے کہ بروز ہفتہ مورخہ 6 اکتوبر کو BFES اسٹیشن 209 میں اوپن ہاؤس منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے دوران شہری اسٹیشن اور ٹرکوں کا معائنہ کر سکتے ہیں؛ اور آگ کی صورت میں باہر بھاگنے کا منصوبہ لانے والے پہلے 50 خاندانوں کو سموک/کاربن مونو آکسائیڈ کے مشترکہ الارم بھی دیے جائیں گے۔

برامپٹن میں منعقد ہونے والے فائر پریوینشن ویک اور دیگر تقریبات کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے، [www.bramptonfire.com](http://www.bramptonfire.com) پر جائیں۔

### سموک الارم اور آگ سے متعلق حقائق (منجانب NFPW)

- 2010-2014 کے دوران گھروں میں آگ سے واقع ہونے والی پانچ میں سے تین اموات ایسے گھروں میں واقع ہوئیں، جن میں دھوئیں کے الارم یا دھوئیں کے کوئی بھی فعال الارم موجود نہیں تھے۔
- آگ کی لپیٹ میں آنے والے ہر 100 گھروں میں واقع ہونے والی اموات کی شرح ان گھروں میں دوگنا زیادہ تھی جن میں دھوئیں کے کارآمد یا فعال الارم نصب نہیں تھے۔
- آگ لگنے کے ایسے واقعات جن میں سموک الارم موجود تھے مگر کام نہیں کرتے تھے، ان میں نصف تعداد ایسے الارمز کی تھی جن میں بیٹریاں موجود نہیں تھیں یا وہ مربوط نہیں تھیں۔
- ایک چوتھائی تعداد میں ایسے الارم موجود تھے جن کی بیٹریاں ختم ہو چکی تھیں۔

### اقتباسات

"ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم گھروں میں لگنے والی آگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں اور اس میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو بچانا بھی شامل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فعال سموک الارم ہی زندگیاں بچاتے ہیں اور اس سال فائر پریوینشن ویک کے دوران ایسی سرگرمیاں اور تقریبات بھرپور طریقے سے منعقد کی جا رہی ہیں جن کے ذریعے ہم سب کو اس کے لیے تیار رہنے کی اہمیت کی یاد دہانی کرائی جائے گی۔"

- میئر لنڈا جیفری

"اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ شمالی امریکہ میں آگ سے واقع ہونے والی پانچ میں سے اندازاً تین اموات ایسے گھروں میں ہوتی ہیں جن میں دھوئیں کے فعال الارم موجود نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال ہم اس پیغام کو عام کر کے اپنے شہریوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں کہ: صرف کام کرنے والے دھوئیں کے الارم ہی زندگیاں بچاتے ہیں۔ سموک الارم نہیں، تو بچنے کی کوئی امید نہیں۔"

- برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز چیف جناب بل ٹوئیز

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریٹور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654